



سوال

(28) نماز عشاء کے بعد ترووں کی تعداد

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

عشاء کی نماز کے بعد تین وتر پڑھنے چاہئیں یا ایک قرآن وحدیث کی رو سے بیان کریں؟ (حافظ محمد قیصر لبانوالی البوجواد صارم)

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلوة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

عشاء کی نماز کے بعد تین وتر بھی پڑھے جاسکتے ہیں اور ایک بھی۔ البوالوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

(الوتر علی کل مسلم، من أحب أن یوتر بحس فیصل، ومن أحب أن یوتر بثلاث فیصل، ومن أحب أن یوتر بإحدی فیصل)

(البوداؤد، کتاب الصلوة، باب کم الوتر؟ (1422) نسائی (1710) ابن ماجہ (1110) بیہقی (3/23) التمشید (13/258) مستدرک حاکم (1/302)

"وتر ہر مسلم پر لازم ہے جو پانچ وتر ادا کرنا پسند کرے وہ پانچ پڑھے اور جو تین وتر پڑھنا پسند کرے وہ تین پڑھے اور جو ایک رکعت پڑھنا پسند کرے وہ ایک پڑھے۔ لہذا ان صورتوں میں سے کوئی ایک اختیار کر سکتا ہے۔"

حداماعندی واللہ اعلم بالصواب

آپ کے مسائل اور ان کا حل

جلد 3 - کتاب الصلوة - صفحہ 130

محدث فتویٰ